



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

March 14, 2026

SECP Eases Stock Market Access for Small Investors

ISLAMABAD, March 14: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has increased the investment limit for Sahulat Accounts from PKR 1 million to PKR 3 million, bringing it in line with limits allowed in the banking sector. The move aims to make stock market investment easier and more accessible for small retail investors.

SECP has also allowed investors to open Sahulat Accounts with multiple licensed securities brokers, providing greater flexibility in choosing brokerage services. However, investors may maintain only one Sahulat Account with each broker. The reform aligns the framework with practices followed in the banking and mutual fund sectors.

The Sahulat Account was introduced to enable small investors to participate in the stock market through a simplified and user-friendly account opening process. Individuals can open a brokerage account with a licensed securities broker by submitting only their Computerised National Identity Card (CNIC), significantly reducing documentation requirements.

The facility is particularly suitable for low-risk retail investors and first-time market participants who may have previously been discouraged by complex account opening procedures. Currently, all licensed securities brokers offer Sahulat Accounts, which can also be opened online, providing greater convenience and accessibility for investors across the country. Individuals categorized as low risk through the broker's risk assessment process may open such accounts, with brokers applying simplified due diligence measures. There are 542,748 total individual sub-accounts in the market.

The Commission will continue introducing further reforms to simplify investment processes so that young investors can confidently participate in Pakistan's formal capital market rather than experimenting with unregulated and unauthorised foreign investment platforms.

چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے اسٹاک مارکیٹ تک رسائی آسان بنانے کے اقدامات: ایس ای سی پی

اسلام آباد، 14 مارچ: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سہولت اکاؤنٹس کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری حد کو 10 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ سرمایہ کاری کی اس حد کو بڑھانے سے چھوٹے ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری مزید سہل ہو جائے گی۔

ایس ای سی پی نے سرمایہ کاروں کو یہ سہولت بھی فراہم کر دی ہے کہ وہ اب ایک سے زائد سیکیورٹیز بروکرز کے ساتھ سہولت اکاؤنٹس کھول سکیں گے، جس سے انہیں بروکریج خدمات کے انتخاب میں مزید آپشنز دستیاب ہو سکیں گے۔ تاہم ہر سرمایہ کار ایک بروکر کے ساتھ صرف ایک سہولت اکاؤنٹ ہی رکھ سکے گا۔ یہ اصلاحات بینکاری اور میوچل فنڈز کے شعبوں میں رائج طریقہ کار سے ہم آہنگ ہیں۔

سہولت اکاؤنٹ اسکیم چھوٹے سرمایہ کاروں کو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا آسان اور سادہ طریقہ کار فراہم کرتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت اکاؤنٹ صرف کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) جمع کرا کے کسی بھی لائسنس یافتہ سیکیورٹیز بروکر کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے۔

سہولت اکاؤنٹ کم رسک والے ریٹیل سرمایہ کاروں اور پہلی بار سرمایہ کاری کرنے والے افراد کے لیے موزوں ہے، جو روایتی اکاؤنٹ کھولنے کے پیچیدہ طریقہ کار کی وجہ سے سرمایہ کاری سے ہچکچاتے ہیں۔ اس وقت تمام لائسنس یافتہ سیکیورٹیز بروکرز سہولت اکاؤنٹس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ سہولت اکاؤنٹ آن لائن بھی کھولے جا سکتے ہیں۔

اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں انفرادی سب اکاؤنٹس کی مجموعی تعداد 542,748 ہے۔

ایس ای سی پی کیپیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانے کے لیے اصلاحات جاری رکھے گا تاکہ نوجوان سرمایہ کار اعتماد کے ساتھ پاکستان کی کیپیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں اور غیر مجاز نان ریگولیٹڈ غیر ملکی سرمایہ کاری پلیٹ فارمز میں تجربات کرنے سے گریز کریں۔